

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”اللہ ہمیں کر دے عطا قفلِ مدینہ“ کے 23

حروف کی نسبت سے مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے 23 مدنی پھول

فرمان امیر اہلسنت و اہل بیت (ع) کا ترجمہ (العالیہ):

خصوصی اسلامی بھائیوں کا بھی ایک اچھا خاصہ طبقہ ہے، ہمیں انہیں بھی سنتیں سکھانی ہیں۔

﴿1﴾ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہے: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ۔ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر

ہے۔ (المعجم الكبير للطبرانی، الحديث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵) اس لیے مجلس خصوصی اسلامی بھائی کا ہر ذمہ دار امیر اہلسنت و اہل بیت

کا ہم عالیہ کے عطا کردہ ”72 مدنی انعامات“ میں سے ”مدنی انعام نمبر 1“ پر عمل کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ: ”میں اللہ تعالیٰ

عز و جلال کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دعوتِ اسلامی کے شعبے مجلس خصوصی

اسلامی بھائی کا مدنی کام، مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق کروں گا، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔“

﴿2﴾ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کا کام گونگے، بہرے، نابینا اور دیگر معذور اسلامی بھائیوں میں تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی

تحریر دعوتِ اسلامی کے پیغام کو عام کرنا اور انہیں دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد ”مجھے اپنی

اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ“ کے مطابق زندگی گزارنے کا مدنی ذہن دینا ہے۔

﴿3﴾ ذیلی حلقے (اسکول، ڈیف کلب، ان کے جمع ہونے کے مقام وغیرہ) میں مدنی مرکز کے دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق انفرادی

کوشش اور تربیتی حلقے وغیرہ کی ترکیب بنائیں۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر

اور 27 مدنی انعامات والا رسالہ (ہدیہ یا تحفہ) پیش کر کے اس پر عمل کے لیے تیار کریں۔ ان کے نام لکھیں اور یاد دہانی بھی

کرواتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنی نیتوں کے مطابق عامل ہو جائیں۔

﴿4﴾ ذیلی حلقوں سے خصوصی اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروانے کے لیے سوار یوں کا بندوبست کریں۔

ہفتہ وار اجتماع میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لئے الگ سے اجتماع گاہ کے ایک طرف (جہاں شرکائے اجتماع متاثر بھی نہ ہوں اور ان

کی نظر بھی پڑے) حلقہ لگائیں بعد اجتماع سنتیں سکھانے اور فکرِ مدینہ کا حلقہ بھی ضرور لگائیں۔ 27 مدنی انعامات پر مشتمل

خصوصی اسلامی بھائیوں کے مدنی انعامات کا رسالہ انہیں اپنی اصلاح کی کوشش کی ترغیب دلا کر (ہدیہ یا تحفہ) ہر ماہ پیش کریں اور

پھر باقاعدہ وصول کر کے اس کی ماہانہ کارکردگی بھی بنائیں۔ بعد اجتماع مخیر اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنا کر خیر خواہی بھی کریں

﴿5﴾ کا مینہ ذمہ دار، اپنی کا مینہ کے خصوصی اسلامی بھائیوں کے مکمل کوائف مثلاً تعداد، نام، پوسٹل ایڈریس، فون نمبر، جمع ہونے

کے مقامات، اسکولز، کام کاج کی مصروفیت وغیرہ جمع کریں، ان سے مسلسل رابطہ رکھیں اور ان کے متعلقہ نگران کو پیش کریں۔

﴿6﴾ خصوصی اسلامی بھائیوں کو ذہن دیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات اور ساری دنیا کے لوگوں کی

اصلاح کی کوشش کے لیے عمر بھر میں یکسخت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ کم از کم 3 دن جدول کے مطابق مدنی قافلے

میں سفر کرنا اور کروانا ہے اور ان کے مدنی قافلے، مجلس مدنی قافلہ کے مشورے سے ان علاقوں کی مساجد وغیرہ میں ٹھہرائیں،

جہاں خصوصی اسلامی بھائی زیادہ سے زیادہ مل سکیں۔

﴿7﴾ نگرانِ شہر / علاقہ / ڈویژن مشاورت کے مشورے سے مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے ذمہ داران یوم تعطیل یا جس دن

ممکن ہو خصوصی اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار تربیتی حلقوں کی ترکیب مدنی مرکز فیضانِ مدینہ یا ہفتہ وار اجتماع والی مسجد میں

کریں۔ دورانیہ: 63 منٹ (اس میں تلاوت، نعت، فیضانِ سنت یا امیر اہلسنت و اہل بیت کا تمہ عالیہ کے رسائل سے درس، نماز کے احکام اور نماز

و وضو وغیرہ کا عملی طریقہ سکھانے کی ترکیب کی جائے)

﴿8﴾ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے ذمہ داران، ہر ماہ وقتاً فوقتاً خصوصی اسلامی بھائیوں کے گھر جا کر والد / بڑے بھائی /

سرپرست وغیرہ اور خصوصی اسلامی بھائیوں کی شخصیات سے ملاقات کریں اور انہیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت اور مدنی قافلوں

میں سفر کی ترغیب دلائیں اور دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے ”تَهَادُوا

تَحَابُّوا“، یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھائیے۔ (مؤطا امام مالک، ج ۲، ص ۴۰۷، رقم ۱۷۳۱) پر عمل کی

نیت سے شیخِ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

بَرکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ اور مکتبۃ المدینہ کی دیگر مطبوعہ کتب و رسائل و میموری کارڈ وغیرہ کی ذاتی طور پر حسب استطاعت اور مخیر اسلامی

بھائیوں سے ترکیب بنا کر تقسیم کرتے رہیں۔ خوشی و غمی (شادی، فوتگی، چہلم و عرس وغیرہ) اور تکلیف و آزمائش (بے روزگاری، بے

اولاد، ناچاقی اور بیماری وغیرہ) کے مواقع پر تقسیم رسائل کی ترغیب دلا نا مفید ہے۔

﴿9﴾ حتی المقدور مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے لئے ایسے عمومی اسلامی بھائیوں کا انتخاب کیا جائے، جو قفلِ مدینہ کورس

(اشاروں کی زبان کا کورس) کئے ہوئے ہوں۔ اشاروں کی زبان سکھانے کے لئے وقتاً فوقتاً ہونے والے قفلِ مدینہ کورس کا جب

بھی اعلان ہو تو مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تمام ذمہ داران، عمومی اسلامی بھائیوں کو ضرور تیار کریں اور اپنے متعلقہ نگران سے

ہفتہ وار اجتماع میں اس کا اعلان بھی کروائیں۔

﴿10﴾ ”مجلس خصوصی اسلامی بھائی“ کے ذمہ داران، دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ”گوگلا

اجازت سے اس شعبے میں کسی بھی سطح پر ذمہ دار مقرر کریں۔ یاد رہے! کسی بھی سطح کے اراکین و نگران کی تقرری کے لئے متعلقہ سطح کے نگران کی اجازت ضروری ہے۔ (امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ہر مجلس میں مدنی اسلامی بھائی کے ہونے کو پسند فرماتے ہیں) ﴿قفل مدینہ کورس﴾ کر کے آنے والے اسلامی بھائیوں کو متعلقہ شعبہ ذمہ دار سے مشاورت کے بغیر ”مجلس خصوصی اسلامی بھائی“ کے علاوہ حتی الامکان کوئی اور ذمہ داری نندی جائے۔

﴿15﴾ مَدَنی مشورہ کی تاریخ و مَدَنی پھول:

#	تاریخ	مَدَنی مشورہ لینے والے	سطح	شرکاء	مَدَنی پھول
1	4	نگرانِ کابینہ / کابینہ ذمہ دار	کابینہ	ذیلی ذمہ داران، شہر و کابینہ سطح کی 3 رکنی مجلس	انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ذمہ داران کے تقریر، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف وغیرہ
2	5	نگرانِ زون / زون ذمہ دار	زون	کابینہ ذمہ داران (بہتر یہ ہے کہ ہر کابینہ کی 3 رکنی مجلس شرکت کرے)	//
3	6	ریجن ذمہ دار / نگرانِ مجلس	ریجن	زون ذمہ داران	//
4	7	رکنِ شوری / نگرانِ مجلس	ملک	ریجن ذمہ داران (اراکینِ مجلس)	//

وضاحت: رکنِ شوری / نگرانِ مجلس، پاکستان سطح کی مجلس (ریجن ذمہ داران) کا ہر ماہ مدنی مشورہ فرمائیں، ایک ماہ بالمشافہ اور ایک ماہ بذریعہ انٹرنیٹ۔

﴿معمول (Routine) سے ہٹ کر ہونے والے شعبہ جات کے مدنی مشوروں یا ذمہ داران کے سُنٹوں بھرے اجتماعات کے لیے اولاً ”اجازت نامہ“ مکمل پُر کر کے طے شدہ طریق کار کے مطابق متعلقہ ذمہ دار کو جمع کروانا ہوگا۔ (مزید وضاحت کے لیے ”اجازت نامہ برائے مدنی مشورہ یا ذمہ داران کا سُنٹوں بھر اجتماع“ کے مدنی پھول بغور ملاحظہ کر لیجئے، یہ اجازت نامہ پاکستان انتظامی کابینہ دفتر سے میل ہو چکا ہے، بوقتِ ضرورت دوبارہ حاصل کیا جاسکتا ہے)

﴿کارکردگی جمع کروانے کی تاریخیں:﴾ ذیلی: 2، شہر: 3، کابینہ: 4، زون: 5، ریجن: 6، ملک: 7

﴿میلنگ﴾، ”گوگلے بہروں کے بارے میں سوال جواب“، ”آئیے وضو سیکھئے (اشاروں کی زبان میں)“ کا مطالعہ بھی فرمائیں اور اس کو عام بھی کریں۔

﴿11﴾ جب بھی کابینہ یا ملکی سطح پر سنتوں بھرے اجتماع کی ترکیب ہو، اجتماع کی تیاری کیلئے اجتماع سے پہلے 12 دن کے مدنی قافلے سفر کروائیں جو ان کے مختلف مقامات مثلاً اسکول، ڈیف کلب، جمع ہونے کے مقام کی قریبی مساجد وغیرہ میں ٹھہرائے جائیں اور پھر اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کروائیں، جو مجلسِ مدنی قافلہ کے مشورے سے ان مساجد وغیرہ میں ٹھہرائے جائیں جہاں خصوصی اسلامی بھائی زیادہ سے زیادہ مل سکیں۔

﴿12﴾ کابینہ یا ملکی سطح پر اجتماعات میں (اجتماع گاہ میں) کابینہ سطح پر دفتر (مکتب) کی ترکیب کی جائے۔

﴿13﴾ مَدَنی قافلہ، مَدَنی انعامات، مختلف مَدَنی کورسز کے ماہانہ اہداف: مجلس کے ہر سطح کے ذمہ داران اپنے نگران کے مشورے سے مدنی قافلوں، مَدَنی انعامات، مدنی تربیتی کورس، اصلاحِ اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس، فیضانِ نماز کورس کے ماہانہ اہداف طے کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی فرمائیں۔

﴿14﴾ ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب:

#	سطح	ذمہ دار	#	سطح	ذمہ دار
1	ذیلی حلقہ (اسکول، ڈیف کلب، ان کے جمع ہونے کا مقام وغیرہ)	ذیلی ذمہ دار (ڈیف کے حلقہ میں ڈیف اور نایبا کے حلقہ میں نایبا اسلامی بھائی)	5	ریجن	ریجن ذمہ دار
2	شہر (نگرانِ مجلس شہر ذمہ دار)	3 رکنی مجلس	6	ملک	نگرانِ مجلس خصوصی اسلامی بھائی
3	کابینہ (نگرانِ مجلس رکن کابینہ)	3 رکنی مجلس	7	مرکزی مجلس شوری	رکنِ شوری مجلس خصوصی اسلامی بھائی
4	زون (نگرانِ مجلس رکن زون)	3 رکنی مجلس			

﴿شہر، کابینہ اور زون سطح پر 3 رکنی مجلس ہوگی (1- نگران، 2- ڈیف، گوگلے، بہرے) ذمہ دار، 3- نایبا ذمہ دار)﴾ ریجن ذمہ داران پاکستان سطح کی مجلس کے رکن ہیں ﴿بیرون ملک کے ذمہ داران، نگرانِ مجلس بیرون ملک (رکنِ شوری) کی

انعامات پر عمل کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کا ذہن دینے کے لیے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، **مدنی دورہ**، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی حلقہ، صدائے مدینہ، چوک درس، پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات میں شرکت وغیرہ۔
 اپنے مدنی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ کم از کم 3 دن جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بناتے رہیں۔

بلا ناغہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے عطار کا دوست، پیارا، منظور نظر اور محبوب عطار بننے کی سعی جاری رکھیے، استقامت پانے کے لئے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے نیز ضروری گفتگو کم لفظوں میں کچھ اشارے میں اور کچھ لکھ کر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ لگا ہوں جھکا کر رکھنے کی ترکیب بنائیے۔

مرکزی مجلسِ شوریٰ، کابینہ اور اپنے شعبے کے مدنی مشوروں کے ملنے والے مدنی پھولوں کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور متعلقہ تمام ذمہ داران تک بروقت پہنچانے کی ترکیب بنائیے۔

ذمہ داران، مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب بنائیں نیز ہفتہ وار Live مدنی مذاکرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ریکارڈ مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے سلسلوں کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی مدنی التجاء ہے۔

دورانِ مدنی کام و ملاقات امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطار یہ میں مرید اطالاب بنانے کی کوشش کرتے رہیں، مرید اطالاب ہو جائیں تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطار یہ سے مکتوب کی ترکیب اور شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطار یہ حاصل کرنے اور روزانہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں۔

مدنی کام استقامت کے ساتھ کرنے کے لئے بالخصوص مدنی انعام نمبر 24 اور 26 کے عامل بن جائیں۔ مدنی انعام نمبر 24: کیا آج آپ نے مرکزی مجلسِ شوریٰ، زون، مشاوریں و دیگر تمام مجالس جس کے بھی آپ ماتحت ہیں، ان کی (شریعت کے دائرے میں رہ کر) اطاعت فرمائی۔ مدنی انعام نمبر 26: کسی ذمہ دار (یا عام اسلامی بھائی) سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہِ راست مل کر (دونوں صورتوں میں نزی کے ساتھ) سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ عزوجل بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے؟

مدینہ: بیرون ملک کے ذمہ داران متعلقہ رکنِ شوریٰ کے مشورے و اجازت سے ان مدنی پھولوں میں ترمیم و اضافہ کر سکتے ہیں۔

مرکزی مجلسِ شوریٰ دعوتِ اسلامی

مدنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

16) مدنی مشوروں کی کثرت سے بچنے کے لیے مقرر کردہ سطح کے علاوہ کسی اور سطح کا مدنی مشورہ لینے کے لیے متعلقہ نگران سے اجازت ضروری ہے۔ جب بڑی سطح کے ذمہ دار دیگر سطح کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ کر لیں تو اس ماہ ان کا ماہانہ مدنی مشورہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس ماہ متعلقہ نگران شعبے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمائیں گے، اس ماہ بھی شعبہ ذمہ داران ماہانہ مدنی مشورہ نہیں کریں گے۔ (شعبے کے مدنی کام کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے فوٹا فوٹا اپنے نگران سے شعبے کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ کروانا مفید ہے)

17) پاکستان/ بیرون ملک سطح کے ذمہ دار عیسوی ماہ کی 7 تاریخ تک کارکردگی پاکستان انتظامی کابینہ/ مجلس بیرون ملک دفتر اور متعلقہ رکنِ شوریٰ کو میل کر دیں۔ (یاد رہے! کارکردگی مدنی مشورے سے مشروط نہیں، اگر کسی وجہ سے مدنی مشورہ نہ ہو سکتا ہے تب بھی مقررہ تاریخ پر اپنے نگران کو کارکردگی پیش کر دیں)

18) ہر ذمہ دار ہر ماہ کا پیشگی جدول عیسوی ماہ کی 19 تا 22 تاریخ تک اپنے نگران سے منظور کروائے، پھر اس کے مطابق پیشگی اطلاع کے ساتھ اپنے جدول پر عمل کرے اور مہینہ مکمل ہونے کے بعد 1 تا 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اپنے نگران کو پیش کرے۔

19) متعلقہ نگران کی مشاورت سے شعبہ ذمہ داران منگل کے روز ضرورتاً ایک دو گھنٹے کے لیے تحریری کام کی ترکیب بنائیں جس میں اپنے پچھلے ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ اور آئندہ ہفتے کے جدول کی تیاری وغیرہ شامل ہو۔

20) متعلقہ نگران سے مربوط رہیں۔ انھیں اپنی کارکردگی سے آگاہ رکھیں اور ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ جو نگران سے جتنا زیادہ مربوط رہے گا وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

21) متعلقہ رکنِ شوریٰ اور زونل نگران کی اجازت سے وقتاً فوقتاً اپنی مجلس کے ذمہ داران کے سنتوں بھرے اجتماع کی ترکیب کرتے رہیں تاکہ پرانے اسلامی بھائیوں کی یاد دہانی اور نئے اسلامی بھائیوں کی مدنی تربیت کا سامان ہوتا رہے۔

22) یاد رہے کہ متعلقہ رکنِ شوریٰ ضرورتاً ان مدنی پھولوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔

23) ذمہ داران اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لئے مندرجہ ذیل امور کو اپنانے کی کوشش فرمائیں:

فرض علوم سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ فرض علوم سیکھنے کے لیے کتب امیر اہلسنت، بہار شریعت، فتاویٰ رضویہ، احیاء العلوم وغیرہ کے مطالعہ کی عادت بنائیں۔ (وقتاً فوقتاً ہونے والے فیضانِ فرضِ علوم کورس اور ہفتہ وار اجتماعی طور پر دیکھے جانے والے ”مدنی مذاکرے“ میں اول تا آخر شرکت کو یقینی بنائیے، اس کی برکت سے علم دین کا لازوال خزانہ ہاتھ آئے گا۔ ”فرضِ علوم“ پر مشتمل مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے ”میوری

کارڈ (Memory Card) کے ذریعے بھی کثیر علم دین حاصل ہوگا۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہوں، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیجئے مثلاً مدنی قافلے میں سفر اور مدنی

تاریخِ اجراء (پڈیٹ مدنی پھول): ۲۶ رمضان المبارک ۱۴۴۰ھ / 1 جون 2019ء